



تم نہ سنت کو پا لیا اور تمہاری نماز تمہارے لیے کافی ہو گئی

ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتا ہے کہ دو آدمی سفر پر نکلے جب نماز کا وقت ہوا، تو ان کے پاس پانی نہ تھا چنانچہ دونوں نے پاک مٹی سے تیمم کر لیا اور نماز ادا کر لی پھر جب ان کو پانی ملا، تو ان میں سے ایک نے دوبارہ وضو کیا اور نماز دوہرائی، جب کہ دوسرے نے نہیں دوہرائی جب وہ دونوں رسول اللہ کے پاس آئے اور یہ بات آپ کے سامنے رکھی، تو جس نے نماز نہیں دوہرائی تھی، اس سے فرمایا: تم نہ سنت کو پا لیا اور تمہاری نماز تمہارے لیے کافی ہو گئی اور جس نے وضو اور نماز کو دوہرایا تھا، اس سے فرمایا: تمہارے لیے دوہرا اجر ہے

[صحیح] [اسے امام نسائی نے روایت کیا ہے - اسے امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے - اسے امام دارمی نے روایت کیا ہے]

جلیل القدر صحابی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس حدیث میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ دو آدمی سفر پر نکلے اور نماز حاضر ہو گئی، یعنی نماز کا وقت ہو گیا ان دونوں کے پاس پانی نہ تھا، انہوں نے پاک مٹی سے تیمم کر لیا، یعنی اپنے چہرے پر مخصوص انداز سے اس کو پھیر لیا یا دونوں نے مٹی سے تیمم کر لیا دونوں نے نماز پڑھ لی اور جب انہیں پانی ملا تو ایک نے وضو اور نماز کو دوہرایا، اس خیال سے کہ پہلی والی باطل ہو گئی یا پھر احتیاطاً ایسا کیا اور دوسرے نے نہ دوہرائی، یہ خیال کرتے ہوئے کہ پہلی والی صورت بھی ٹھیک تھی پھر وہ دونوں رسول اللہ کے پاس آئے اور آپ کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا، یعنی جو ان کے ساتھ ہوا تھا جس نے وضو اور نماز نہیں دوہرائی تھی اس سے رسول اللہ نے فرمایا: تم نے سنت کو پایا، یعنی شریعت سے ثابت سنت کو پایا ہے اور تمہاری نماز تمہارے لیے کافی ہے، یہ ما قبل کی وضاحت اور تاکید ہے جبکہ جو دوسرا تھا جس نے وضو کیا تھا اس سے فرمایا، یعنی نماز کے لیے وضو کیا اور دوہرایا، یعنی نماز کو اس کے وقت میں ہی تمہارے لیے دوہرا اجر ہے یعنی تیری نماز کا دوہرا اجر ہے ان دونوں کے عمل کے صحیح ہونے کی وجہ سے ان کے عمل پر ثواب جاری ہوا ہے اور بیشک اللہ تعالیٰ کسی کے اچھے عمل کے اجر کو رائیگاں نہیں کرتا اور اس میں یہ بھی اشارہ موجود ہے کہ عمل کی ادائیگی میں احتیاط افضل ہے جیسا کہ رسول اللہ نے فرمایا: ”جو تمہیں شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دو اور وہ اختیار کر جس میں شک نہیں“

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/10022>



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

